

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا
فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ (42) أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ
مِنْ أَوْلَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ
نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ
الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَ
أَمْرٌ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47)
يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ
سَقَرٍ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَ مَا
أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمَحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا
أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (51) وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ
فِي الزُّبُرِ (52) وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ (53)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهْرٍ (54) فِي مَقْعَدٍ

صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ (55)

To the people of Pharaoh, too, aforetime, came warners (from Allah). The (people) rejected all our signs; but We seized them with the seizure of a mighty, powerful. Are your unbelievers, (O Quraish), better than they? Or have ye an immunity in the sacred books? Or do they say: "We acting together can defend ourselves"? Soon will their multitude be put to flight, and they will show their backs. Nay, the hour (of judgment) is the time promised them (for their full recompense): and that hour will be most grievous and most bitter. Truly those in sin are the ones in error and madness. The day they will be dragged through the fire on their faces, (they will hear:) "Taste ye the touch of hell!" Verily, all things have We created in proportion and measure. And Our command is but a single word,- like the twinkling of an eye. And (oft) in the past, have We destroyed gangs like unto you: then is there any that will receive admonition? All that they do is noted in (their) books (of deeds): Every matter, small and great, is on record. As to the righteous, they will be in the midst of gardens and rivers, in a sure abode with a sovereign omnipotent.

اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری

نشانیوں کو جھٹلادیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت

والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ اُن لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں

میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم
ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ عن قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا
اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل
وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم
لوگ درحقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز
یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اُس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو
جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم
بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آجاتا ہے۔ تم جیسے بہت
سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں
نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود
ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی
عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔

और आले-फिरऔन के पास भी तंबीहात आई थीं, मगर उन्होंने
हमारी सारी निशानियों को झुटला दिया | आखिर को हमने उन्हें
पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त कुदरतवाला पकड़ा करता है |
क्या तुम्हारे कुफार कुछ उन लोगों से बेहतर हैं? या आसमानी

किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफ़ी लिखी हुई है? या इन लोगों का कहना यह है कि हम एक मज़बूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे? अनक़रीब यह जत्था शिकस्त खा जाएगा और ये सब पीठ फेरकर भागते नज़र आएँगे | बल्कि इनसे निपटने के लिए अस्ल वादे का वक़्त तो क्रियामत है, और वह बड़ी आफ़त और ज़्यादा तल्ख़ साअत है | ये मुजरिम लोग दरहकीक़त ग़लतफ़हमी में मुब्तला हैं और इनकी अक्ल मारी गई है | जिस रोज़ ये मुँह के बल आग में घसीटे जाएँगे उस रोज़ इनसे कहा जाएगा कि अब चखो जहन्नम की लपट का मज़ा | हमने हर चीज़ एक तक़दीर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है और पलक झपकाते वह अमल में आ जाता है | तुम जैसे बहुत-सों को हम हलाक कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत क़बूल करनेवाला? जो कुछ उन्होंने किया है वह सब दफ़्तरों में दर्ज है और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है | नाफ़रमानी से परहेज़ करनेवाले यक़ीनन बाग़ों और नहरों में होंगे, सच्ची इज़ज़त की जगह, बड़े ज़ी-इक़तिदार बादशाह के क़रीब।